

10th Class Home Economics Chapter 6 Art & Design KPK Boards Online MCQ's

Sr	Questions	Answers Choice
1	کرتے کی چوڑائی بڑھانے کے لیے ڈالا جاسکتا ہے:	A. پھولوں کا B. لیس کا C. رین کا D. کلیوں کا
2	اگر قمیض چوڑائی میں تنگ ہے تو گھیر دار فراک تیار ہو سکتا ہے:	A. ہم رنگ پٹیل لگا کر B. لیس لگا کر C. مختلف انداز میں پٹیل ڈال کر D. پہلے دونوں
3	کپڑوں کو فیشن کے مطابق کرنے کے بارے میں کتنی تجاویز ہیں:	A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
4	لباس کی سلانی کوئی کام نہیں:	A. بے فائدہ B. آسان C. مشکل D. محنت طلب
5	ہماری خوراک میں کتنے امینوٹرسوں کا موجود ہونا ضروری ہے:	A. چیزوں کی ترتیب B. حرکت کی شکل میں C. ساکن شکل میں D. مختلف اشکال سلسلے
6	کون سا وٹامن دماغ اور اعصاب کو مضبوط بنا تا ہے:	A. وٹامن بی B. وٹامن اے C. وٹا من ڈی D. وٹامن سی
7	غذا مہیا کرتی ہے:	A. صحت و تندرستی B. وزن بڑھانا C. قد بڑھانا D. رنگ گورا کرنا
8	ایک گرام کا ربو پائٹریٹ سے حرارے حاصل ہوتے ہیں:	A. پانچ B. دس C. تین D. چار
9	انتظام کس سے محفوظ رکھنے کی ترغیب دیتا ہے:	A. نا اہلی B. بد انتظامی C. کامیابی D. معاونت
10	ادھیڑ عمر خواتین کے لباس لمبائی اور چوڑائی میں ہو:	A. تنگ B. بہت تنگ C. کھلا D. درمیانہ
11	ادھیڑ عمر کے لیے لباس کے رنگ ہونے چاہیے:	A. گہرے B. ہلکے C. شوخ D. چمکیلے
12	پہل اور سبزیل جسم کو دیتی ہیں:	A. روزانہ خوراک B. رنگین خوراک C. طاقت اور حرارت D. ذائقہ
13	زندگی کے ادوار کا آخری حصہ ہوتا ہے:	A. ادھیڑ عمر B. بڑھاپا C. درمیانی عمر D. نولوغت
14	50 سال کی عمر میں کافی بڑھ جاتی ہیں:	A. غذائی ضروریات B. سماجی ضروریات C. آرائشی ضروریات D. مذہبی ضروریات
15	50 سال کی عمر میں انسان کی ایک شناخت بن چکی ہوتی ہے:	A. خاندان میں B. گھرانے میں C. معاشرے میں D. ملک میں

